

کتاب الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام
تألیف العلامة المحقق مولانا القاضی الشہیر مٹلا
خسرو الحنفی تغمده اللہ برحمتہ

وبہامشہ حاشیۃ العلامة ابی الاخلاص الشیخ حسن بن عمارین
علی الوفا فی الشر بتلالی الحنفی نقض اللہ امین

میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی